



Al Meezan
Investment Management Ltd.

ایجوکیشن سیونگز پلان

میزان فنانشل پلاننگ فنڈ آف فنڈز (MFPPF) پر مبنی پلان



آپ کے بچے کی
اعلیٰ تعلیم کے حصول میں
بہترین معاون

AM1
Rating by VLS & PACRA

Available on Social Media
f X YouTube in

SMS "invest" to 6655
0800 - HALAL (42525)
www.almeezangroup.com

A Subsidiary of
Meezan Bank
The Premier Islamic Bank



Al Meezan
Investment Management Ltd.

EDUCATION SAVINGS PLAN

PLAN BASED ON MEEZAN FINANCIAL
PLANNING FUND OF FUNDS (MFPPF)



Help
Your Child to
Get the **Dream**
Education

AM1
Rating by VLS & PACRA

Available on Social Media
f X YouTube in

SMS "invest" to 6655
0800 - HALAL (42525)
www.almeezangroup.com

A Subsidiary of
Meezan Bank
The Premier Islamic Bank

MFPF Education Savings Plan is the right tool for planning your children's education. With the ease of regular investments and choice of allocation in accordance with your risk appetite.

BENEFITS OF INVESTING IN EDUCATION SAVINGS PLAN

Investment in education plan allows you to:

- ◆ Help your child have the necessary funds for education at the required time
- ◆ Option to avail Takaful coverage is available, contributions of which will be deducted from investor's investment account maintained with Al Meezan

FEATURES OF EDUCATION SAVINGS PLAN

- ▶ Plan available for a term of minimum 3 years to maximum 18 years
- ▶ Choice of monthly, quarterly, semi-annual or annual contributions
- ▶ No back-end load
- ▶ Plan valid till principal investor attains age 60
- ▶ Minimum initial investment Rs. 5000/-

CHOICE OF ALLOCATION PLANS

You can choose to invest in the following Allocation Plans:

	Name of Allocation Plan(s)	Indicative Minimum percentage allocation invested in Collective Investment Scheme(s)		
		Equity Scheme(s)	Fixed Income / Money Market Scheme(s)	Risk of Principle Erosion
1	Aggressive Allocation Plan	65%	25%	Principal at High Risk
2	Moderate Allocation Plan	45%	45%	Principal at Medium Risk
3	Conservative Allocation Plan	20%	70%	Principal at Medium Risk
4	Very Conservative Allocation Plan	0%	100%	Principal at Medium Risk

Note:

- For a comprehensive set of Terms and Conditions all investors are strongly encouraged to read the constitutive documents prior to investing.
- For Takaful coverage*, the Management Company's role is that of a corporate Takaful agent. Takaful service provider as principal is responsible for all liabilities under the terms of the policy.
- The Management Company may discontinue the plan, if the Management Company in consultation with the Trustee is of the view that the Terms and Conditions of the plan are not viable for the investors. In such a case, unit holders may either remain invested in MFPF or redeem their units without any back end load.
- Takaful premium shall be deducted after invoicing from Takaful provider on monthly basis on month end balance.

*Takaful contributions are deducted from investor's investment account maintained with Al Meezan and submitted to the Takaful operator at periodic frequency. Takaful is subject to underwriting. The AMC will not be responsible or liable for maintaining service levels and/or any delay in processing claims arising out of this facility. The Management Company, the Trustee and the underlying Fund shall not be held liable for honouring any Takaful claims. Sum Covered - Balance Amount is subject to max of Rs. 5 Million per investor. Minimum Age to enter Takaful Plan is 18 years and maximum age is 59 years.



Takaful Provider

3rd and 4th Floor,
Adamjee House, I.I.Chundrigar Road, Karachi.
Ph: +92 (21) 111-11-5433

Risk Disclaimer: All investments in Mutual Funds and Pension Funds are subject to market risks. Past Performance is not necessarily indicative of future results. Please read the offering document to understand the investment policies, risks and tax implications involved. The products herein above have been approved by our Shariah Advisors Dr. Muhammad Imran Ashraf Usmani whose registration reference number is (SECP/IFD/SA/005). Use of the name and logo of Meezan Bank Limited does not mean that it is responsible for the liabilities/obligations of Al Meezan Investment Management Limited or any investment scheme managed by it.

Fund Risk Profile: Plan Specific (Medium-High)

Fund Category: Fund of Funds

Launch Date: 11 April,2013

پلان کا مقصد

آپ کے بچوں کی تعلیمی ضروریات کی منصوبہ بندی کے لیے ایجوکیشن سیونگز پلان ایک بہترین پروڈکٹ ہے۔ مستقل سرمایہ کاری کی آسانی کے ساتھ حسب ضرورت رقم کے انتخاب کا حق آپ کے پاس ہے۔

ایجوکیشن سیونگنر پلان میں سرمایہ کاری کے فوائد

ایجوکیشن پلان میں سرمایہ کاری آپ کیلئے ممکن بناتی ہے کہ :

- مطلوبہ وقت پر آپ کے بچے کی تعلیم کیلئے ضروری رقم فراہم کرنے میں مدد حاصل ہو سکے گی۔

ایجوکیشن سیونگز پلان کی خصوصیات

- ▶ پان کم سے کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 18 سال کی مدت کیلئے دستیاب ہے
- ▶ باقاعدہ، مہاسی، ششماہی یا سالانہ اقساط کا انتخاب
- ▶ کوئی ایک ایندو نہیں
- ▶ پان اصل سرمایہ کار کے 60 سال کی عمر تک پہنچ جانے تک کارآمد ہے
- ▶ کم سے کم ابتدائی سرمایہ کاری - 5,000 روپے ہے

ایلوکیشن پلانز کا انتخاب

آپ درج ذیل ایلو کیشن پلانز میں سرمایہ کاری کا انتخاب کر سکتے ہیں:

پلان یا پلانز کا نام	مختلف اسکیمز میں مجموعی طور پر سرمایہ کاری کی گئی رقم		
	ایکویٹی اسکیم	گنبد نگم منی مالیکٹ اسکیم/ اسکیمز	پرنسپل ایروزن کے خطرات
1 آگریسیو ایلیکشن پلان	65%	25%	پرنسپل ایروزن کا خطرہ زیادہ ہے
2 مودی ریٹ ایلیکشن پلان	45%	45%	پرنسپل ایروزن کا خطرہ معتدل ہے
3 کنزروےو ایلیکشن پلان	20%	70%	پرنسپل ایروزن کا خطرہ معتدل ہے
4 ویری کنزروےو ایلیکشن پلان	0%	100%	پرنسپل ایروزن کا خطرہ معتدل ہے

نوٹ:

- ▶ شرائط مضابط کے جامع مجموعے کیلئے تمام سرمایہ کاروں کو پُر زور تاکید کی جاتی ہے کہ وہ سرمایہ کاری سے پہلے بنیادی دستاویزات کو اچھی طرح پڑھ لیں۔
- ▶ تکفل تحفظ کیلئے، انتظامی ادارے کا کردار ادارہ جاتی تکفل ایجنٹ کا ہے۔ تکفل خدمات فراہم کرنے والی ایسٹورس براہ پالیسی کی شرائط کے تحت تمام واجبات کا ذمہ دار ہوگا۔
- ▶ اگر انتظامی ادارہ برٹش (بین) سے مشاورت کے ساتھ خیال کرتا ہے کہ پلان کی شرائط و مضوابط سرمایہ کاروں کیلئے قابل عمل نہیں ہیں تو انتظامی چینی پلان کو روک سکتی ہے۔ ایسی صورت میں، یوٹ ہولڈرز چاہیں تو MFPP میں سرمایہ کاری جاری رکھ سکتے ہیں یا چاہیں تو اپنے یوٹس بغیر کسی بیک اینڈ لوڈ کے نکال سکتے ہیں۔
- ▶ تکفل کار پر بحیم براہ تکفل فرہم کنندہ سے انوائس کے بعد ہر ماہ کے آخر میں بینٹس پر کاٹا جائے گا۔

[illegible]

نکافل فراہم کنندہ

3rd اور 4th فلور
م جی ہاؤس، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی
فون نمبر: +92 (21) 111-11-5433

قرآن سے قرآن یہ سچا جادو ہے جس سے قرآن مجید کی ہر آیت اور ہر کلمہ اپنے اصل معنی میں سمجھنے کے لئے قرآن ہی سے ہی سیکھا جاسکے گا۔ قرآن مجید کی ہر آیت اور ہر کلمہ اپنے اصل معنی میں سمجھنے کے لئے قرآن ہی سے ہی سیکھا جاسکے گا۔ قرآن مجید کی ہر آیت اور ہر کلمہ اپنے اصل معنی میں سمجھنے کے لئے قرآن ہی سے ہی سیکھا جاسکے گا۔

ی کرنے کی تاریخ: 11 ابریل 2013

فہرست مضامین

فقد روي في كل خط است: مخصوص بالاداء (و زمانه : ١٠٠)